

200+ انگلش سے اردو فقرات

I didn't recognize you.	میں نے آپ کو نہیں پہچانا	Don't shirk work.	کام سے جی مت چراؤ۔
How do you do that?	تم یہ کیسے کر لیتے ہو؟	All the things were at sixes and sevens in the room.	کمرے میں تمام چیزیں بکھری پڑی تھیں
You are such a dark horse.	بڑے چھپے رستم ہو	Do not pay off old scores and be friends.	پرانے بدلے نہ چکاؤ، اور دوست بن جاؤ
What do you think, what should I do?	کیا خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہئے	Why are you pulling my legs?	تم میرا مزاق کیوں بنا رہے ہو؟
Stop tickling me!	گد گدی کرنا بند کرو	So far, so good.	ابھی تک تو سب ٹھیک ہے۔
Such a moocher you are.	بڑے ہی مفت خور ہو	No such luck!	ایسی قسمت کہاں
Wring the clothes!	کپڑے نچوڑ دو	His efforts were crowned with success.	اس کی کوششیں پھل لے آئیں۔
Wait outside.	باہر انتظار کرو۔	The police caught the thief red-handed.	پولیس نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا
Speak your mind.	اپنے دل کی بات کہو۔	Do what you have to do.	جو کرنا ہے کرو
You're such a glutton.	تم بڑے ہی پیٹو ہو	It is a sin call name.	گالی دینا گناہ ہے۔
Don't try my patience.	میرے صبر کا امتحان مت لو	She has intoxicated eyes.	اس کی آنکھیں نشیلی ہیں۔
Look, make bed over here.	دیکھو یہاں بستر لگا دو	What the eye sees not.	نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری
to the point.	کام کی بات کرو۔	Much cry, little wool.	رات بھر روتے رہے مرا کوئی نہیں
Hang on a minute.	ایک منٹ رکو زرا	Have a little more.	تھوڑا اور لیجئے۔
I have nothing to do with this.	مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔	Every man for himself.	ہر بندے کو اپنی فکر کرنی چاہئے
Walls have ears.	دیواروں کے کان ہوتے ہیں	Just taste it.	چکھ کر دیکھو
Nobody was home.	گھر پر کوئی نہیں تھا۔	She is so skeptical.	وہ بہت شکی ہے
How long does it take to get there?	وہاں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟	Mind your language.	منہ سنمبھال کر بات کرو۔
Why have you offended him?	تم نے اسے ناراض کیوں کیا	What shall I say?	میں کیا کہوں؟
Don't shirk work.	کام سے جی مت چراؤ۔	Love begets love.	دل کو دل سے راہ ہوتی ہے
Don't spit on the floor.	فرش پر مت تھو کو	Who are you to say that!	تم ایسا کہنے والے کون ہو
He came into my bedroom.	وہ میرے خواب گاہ میں آیا	You can't do anything to me.	تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
Atone for your sins.	اپنے گناہوں سے توبہ کر	Something is fishy.	کچھ گڑ بڑ ہے
What's the day today?	آج کونسا دن ہے	A bad beginning makes a bad ending.	آغاز بد انجام بد
Use your wit.	ہوش سے کالو	Speak little, but speak the truth.	تھوڑا بولو سچ بولو۔
Who is he to you?	وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟	Now the game is over.	اب تو کھیل ختم ہو چکا ہے۔
Thread the needle.	سوئی میں دھاگہ ڈالو۔	You are really a piece of Moon.	چاند کا ٹکڑا ہو تم۔
I'm going to the flea market.	میں لنڈا بازار جا رہا ہوں	I saw a saw but could not saw.	میں نے ایک آری دیکھی جو دیکھ نہ پایا۔

200+ انگلش سے اردو فقرات

Touch wood!	کہیں نظر نہ لگ جائے	Tuck your shirt into your trousers	اپنی قمیض پینٹ کے اندر کر لو
With whom do you come?	آپ کس کے ساتھ آئے ہو؟	I have nothing to do with him.	میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں
Do you think Ali is a good man?	کیا آپ علی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں؟	I'll stand by what I said earlier.	میں نے جو پہلے کہا، اس پر اب بھی قائم ہوں
Whom do you love most?	آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہو؟	Do take your jacket off ; we do not stand on ceremony in this house.	اپنی جیکٹ اتار لو۔ ہم اس گھر میں تکلف نہیں کرتے
I don't know where he is.	مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے	His meanness has become a standing joke.	اس کی کمینگی ایک مستقل لطیفہ بن چکی ہے
I haven't seen him for one week.	میں نے اسے ایک ہفتے سے دیکھا نہیں۔	She spurned all offers of help.	اس نے مدد کی ہر پیشکش ٹھکرا دی
I have never done it before.	میں نے پہلے کبھی نہیں کیا	She suddenly spied her brother in the crowd.	اس نے اچانک اپنے بھائی کو ہجوم میں دیکھ لیا
I might do that.	میں شاید یہ کروں	I woke up from the bad dream with a start.	میں یکدم گھبرا کر برے خواب سے چونکا
No, not yet.	نہیں، ابھی نہیں	The goods were consigned to you by railway	سامان آپ کو ریلوے کے ذریعے بھیج دیا گیا تھا
So, let's get started.	تو چلیے، شروع کرتے ہیں۔	A good education gives the best possible start in life.	اچھی تعلیم زندگی میں بہترین ممکنہ آغاز مہیا کر دیتی ہے
I am a chocoholic.	میں چاکلیٹ کی بڑی شوقین ہوں۔	I have nothing further to say.	مجھے مزید کچھ نہیں کہنا ہے
I know a bit about it.	مجھے اس بارے میں تھوڑا پتا ہے۔	I don't remember ever seeing him before.	مجھے یاد نہیں کہ میں نے اُسے پہلے کبھی دیکھا ہو
Look it up on the internet.	انٹرنیٹ پر تلاش کر لو	We owe our parents a lot.	ہم پر ہمارے والدین کے بہت سے احسانات ہیں
I didn't say I didn't believe you.	میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں	What rotten weather!	کتنا خراب موسم ہے!
We finished in record time.	ہم نے بہت ہی کم وقت میں اپنا کام ختم کر لیا	I can't stand it any longer.	اب میں مزید اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا
Please rectify the mistakes in my bill.	براہ کرم میرے بل میں جو غلطیاں ہیں سن کی تصحیح کر دیں	I did it from force of habit	میں نے یہ کام عادت سے مجبور ہو کر کی
He is a young cricketer with great potential.	وہ بہت باصلاحیت نوجوان کرکٹر ہے	He writes to me every now and then.	اوہ گا ہے بگا ہے مجھے خط لکھتا ہے
The new leader reanimated the political party.	نئے لیڈر نے سیاسی جماعت میں پھر سے جان ڈال دی	You can get this booklet gratis from here.	آپ یہاں سے یہ کتابچہ مفت حاصل کر سکتے ہیں
I have a fairly light teaching load this term.	اس طے شدہ مدت میں میرے ذمے پڑھانے کا کام کافی ہلکا ہے	My overall impression is that his work is good.	میرا مجموعی تاثر یہ ہے کہ اُس کا کام اچھا ہے
There is a letter addressed to you.	آپ کے نام ایک خطہ	She overindulges her children.	وہ اپنے بچوں کے کچھ زیادہ ہی لاڈ دیکھتی
I own nothing beyond the clothes on my back.	میرے بدن پر جو کپڑے ہیں، ان کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں	I have got a speck of dirt on my shirt	میری قمیض پر گندگی کا ایک نشان ہے
That old film evoked memories of my childhood.	اُس پرانی فلم نے میری بچپن کی یادیں تازہ کر دیں	Lean security allowed the thieves to enter.	ناکافی سیکورٹی کی وجہ سے چور اندر آنے میں کامیاب ہو گئے
The court adjudged that he was guilty.	عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ قصور وار ہے	He spends most of his time travelling.	وہ اپنا زیادہ تر وقت سفر میں گزارتا ہے
The police were unable to hold back the crowd.	پولیس ہجوم کو روکنے میں ناکام رہی	We were under fire from all sides.	ہر طرف سے ہم پر گولیاں برس رہی تھیں
You've been a great help.	آپ نے بہت مدد کی ہے	I mustered up my courage and walked onto the stage.	میں نے ہمت کی اور سٹیج پر چڑھ گیا
His smile had masked his anger.	اُس کی مسکراہٹ نے اُس کے غصے پر پردہ ڈال رکھا تھا	The test for bacteria was negative.	ٹیسٹ میں بیکٹیریا نہیں تھا
Come quickly; the child is drowning.	جلدی آؤ؛ بچہ ڈوب رہا ہے	The little girl was murmuring in her sleep.	چھوٹی بچی نیند میں بڑبڑا رہی تھی
Mesh the potatoes with a fork.	کانٹے سے آلوؤں کو پھینٹو	The window was wide open.	کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی
The window was wide open.	کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی	His smile had masked his anger.	اُس کی مسکراہٹ نے اُس کے غصے پر پردہ ڈال رکھا تھا